



## سوال

(686) طاغوت کے لغوی معنی کیا ہیں؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

طاغوت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کیا موجودہ حکومت طاغوت ہے اس حکومت کے کن کاموں میں ساتھ دینا چاہیے؟ (شاہد سلیم، لاہور)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

طاغوت طغی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

{ إِنَّمَا طَغَى النَّاسُ حَمَلُكُمْ فِي الْبَارِيَةِ } [الحاقة: ۱۱]

”جب پانی میں طغیانی آگئی، تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھالیا۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

{ فَأَنَّا شَمُوذًا مَّخْلُوعًا بِالطَّاغِيَةِ } [الحاقة: ۵]

”شموذ تو بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کر دیئے گئے۔“ رہا طاغوت کا ساتھ دینے والا معاملہ تو طاغوت کے جن معاملات میں طغوت و بغاوت پائی جاتی ہے، ان معاملات میں ان کا ساتھ نہ دیں، وہ طاغوت خواہ حکومت ہو، خواہ قوم، خواہ فرد۔

[اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے مضبوط رسی کو پھٹلایا۔“] [البقرة: ۲۵۶]

اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کو پوجنے سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے۔ اسے نبی [تومیرے بندوں کو بشارت سنا دے۔] [الزمر: ۱۰]

”اور وہ لوگ جو کافر ہیں، طاغوت ان کے دوست ہیں۔“ [البقرة: ۱۵۴] لفظ طاغوت مذکور اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، واحد اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے، جسے بندہ اس کی حد سے بڑھادے اس طرح کہ اسے معبود یا قابل اطاعت مان لے، ہر وہ شخص طاغوت ہے، جس سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں فیصلے کرائیں۔ یا اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کریں یا بلا بصیرت اس کی اتباع کریں۔ نسل انسانی میں موجود شیاطین۔ صراط مستقیم سے باز رکھنے والے جادوگر، نجومی



، سرکش ، جنات اور صراطِ مستقیم سے باز رہنے والے بھی طاغوت کہلاتے ہیں۔ [ ۲۴ ۶ ۱۴۲۳ھ

## قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل

جلد 02 ص 690

محدث فتویٰ